

بے اٹ آف (Pay It Off) کا معاہدہ
(Urdu)

تاریخ:
کیس ID:
Non-Custodial Parent
اپنا فون/ای میل درج کریں:

دستخط شدہ معاہدہ واپس کریں:
OCSS - Pay It Off
PO Box 830, Canal St. Station
New York, NY 10013

یہ معاہدہ NYC محکمہ برائے سماجی خدمات (NYC Department of Social Services, NYC DSS) کے اندر آپ، اور انسانی وسائل کی انتظامیہ کے دفتر برائے امداد اطفال کی خدمات کے درمیان ہے۔ اس معاہدے میں NYC DSS کے بے اٹ آف (Pay It Off) پروگرام میں آپ کی شرکت کے ارادے کے لیے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ ایک شرکت کنندہ کی حیثیت سے، آپ اپنی موجودہ امدادی رقم، اگر کوئی ہو، اور امداد اطفال کے بقایا جات کی مد میں \$500 یا اس سے زیادہ کی رقم ادا کرنے سے اتفاق کرتے ہیں جو آپ کو NYC DSS کو 17 اکتوبر 2022 اور 31 اکتوبر 2022 کے درمیان دینی ہے۔ آپ کے NYC DSS بقایا جات نیو یارک اسٹیٹ فیملی کورٹ اور/یا سپریم کورٹ کے امداد کے حکم کا نتیجہ ہیں جس کا نفاذ سپورٹ کلیکشن یونٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔

NYC DSS ڈاک، ٹیلیفون کے ذریعہ، ذاتی طور پر، یا آن لائن کی گئی ادائیگیاں قبول کرے گا۔ آپ کے NYC DSS کے بقایا جات کی مد میں 17 اکتوبر 2022 اور 31 اکتوبر 2022 کے درمیان، تصدیق شدہ یا ذاتی چیک، منی آرڈر، کریڈٹ کارڈ یا ویزا/ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے موصول ہونے والی کسی بھی غیر آرائش کی ادائیگی کے لیے کل \$500.00 یا اس سے زیادہ کی رقم، NYC DSS:

Pay It Off کے لیے مطلوبہ رقم کا اطلاق آپ کی حالیہ کرنٹ سپورٹ کورٹ کے حکم کردہ ذمہ داری کی کل رقم ادا کرنے کے لیے کرے گا جو اکتوبر کے مہینے میں واجب الادا ہے اگر اسے ابھی تک ادا نہیں کیا گیا ہے۔ موجودہ امداد کی ادائیگی کے لیے لی گئی رقم میچ نہیں کی جائے گی۔ اگر بقیہ رقم اب \$500 سے زیادہ نہیں ہے، تو اسے Pay It Off کے معیار کی بنیاد پر میچ نہیں کیا جائے گا۔

آپ کی بقیہ ادائیگی (کم از کم \$500) کو آپ کے امداد اطفال کے اکاؤنٹ میں لاگو کرے گا اور NYC DSS پر واجب الادا رقم کو کم کرنے کے لیے اسے ڈالر کے بدلے ڈالر (آپ کی واجب الادا رقم تک) سے میچ کر دے گا۔

اگر اطلاق ہو تو، آپ کی مستقل طور پر تفویض شدہ NYC DSS امداد اطفال قرض میں اضافی ایک ہزار ڈالر (\$1,000) کی تخفیف کرے گا کیونکہ آپ نے بقایا جات کریڈٹ پروگرام میں بھی اندراج کرایا ہے؛ اور

اگر اطلاق ہو تو، رقم کے عدالتی تصفیہ نامہ کے سود کو جو NYC DSS کی طرف سے آپ پر واجب ہے منہا کر دے گا کیونکہ آپ نے تصفیہ کی پوری اصل رقم ادا کر لی ہے۔ ہم تحریری طور پر آپ کو بتائیں گے کہ سود کی کتنی رقم ختم کی گئی۔

میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ NYC DSS میرے پاس موجود دیگر امداد اطفال کے اکاؤنٹس پر DSS کے قرض کو کریڈٹ کرنے کے لیے کسی بھی زائد ادائیگی کا اطلاق کر سکتا ہے۔

یہ دستاویز فریقین کے درمیان مکمل معاہدے پر مشتمل ہے اور اس میں فریقین کے مع دستخط تحریر کے بغیر اس میں کوئی رد و بدل، تبدیلی یا منسوخی نہیں ہو سکتی ہے۔

گارنٹمنٹ کے ذریعے جمع کی گئی ادائیگیاں (بشمول بے چیک اور بیروزگاری بیمہ گارنٹمنٹس)، ضبطی، ٹیکس کی بازداشت، یا دیگر انتظامی نفاذ کے آلات Pay It Off کے ذریعے مماثل نہیں ہوں گے۔ اس معاہدے کے تحت کی گئی ادائیگیاں بذات خود کسی باقی ماندہ وارنٹس کو نہیں ہٹاتی ہیں۔ صرف عدالت ہی کسی وارنٹ کو ہٹا سکتی ہے۔

اس معاہدے پر دستخط کر کے، آپ ان تقاضوں کو سمجھتے ہیں جن سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور یہ کہ NYC DSS نے آپ کی شناخت کی تصدیق کر دی ہے۔

معاہدے میں سرکاری طور پر جاری کردہ فعال شناخت نامہ کی ایک تصویر یا نقل (کاپی) شامل کی جانی چاہیے

کیا آپ کو طبی یا ذہنی صحت کی کیفیت یا معذوری لاحق ہے؟ کیا اس کیفیت کے باعث آپ کے لیے اس نوٹس کو سمجھنا یا اس نوٹس میں جس چیز کی درخواست کی جا رہی ہے، اسے انجام دینا مشکل ہوتا ہے؟ کیا اس کیفیت کی وجہ سے آپ کے لیے HRA میں موجود دیگر خدمات حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے؟ ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہمیں 718-557-1399 پر کال کریں۔ جب آپ HRA کے دفتر جائیں تو آپ وہاں بھی مدد طلب کر سکتے ہیں۔ آپ کو قانون کے تحت اس قسم کی مدد حاصل کرنے کا حق ہے۔